



رسول اللہ ﷺ اپنے سر پر تین دفعہ پانی ڈالا کرتے تھے

ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے والد، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور کچھ دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ (غسل کرنے کے لیے) تمہارے لیے ایک صاع پانی کافی ہے اس پر ایک شخص بولا کہ میرے لیے تو یہ کافی نہیں ہے جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا، جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے ان کی مراد رسول اللہ ﷺ تھے پھر جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر میں نماز پڑھائی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”رسول اللہ ﷺ (جب غسل فرماتے تو) اپنے سر پر تین دفعہ پانی ڈالا کرتے تھے“

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے - متفق علیہ]

ابو جعفر محمد بن علی اور ان کے والد، جلیل القدر صحابی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے ان میں سے ایک شخص نے جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ غسل جنابت کے لیے پانی کی کتنی مقدار کافی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ”تمہارے لیے ایک صاع پانی کافی ہے“ جابر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود لوگوں میں حسن بن محمد بن حنفیہ بھی تھے وہ کہنے لگے کہ غسل جنابت کے لیے میرے لیے اس قدر پانی کافی نہیں ہے اس پر جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا پانی ان کے لیے کافی ہے جو جایا کرتا تھا، جن کے بال تم سے زیادہ لمبے اور گھنے تھے اور وہ تم سے بہتر تھے اور یقیناً ان کو اپنی طہارت اور دین کی تم سے زیادہ فکر تھی ان کی مراد نبی ﷺ تھے اس حدیث میں اتباع سنت اور اس بات کی ترغیب ہے کہ دوران غسل پانی کا فضول استعمال نہیں کرنا چاہیے پھر جابر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو نماز پڑھائی

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3455>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

